



THE  
SENATE OF PAKISTAN  
DEBATES  
OFFICIAL REPORT

Wednesday, April 2, 1975

CONTENTS

	Pages
Starred Questions and Answers ... ..	35
Leave of Absence ... ..	47
Message from the National Assembly Re : Adoption of the North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975— <i>Read out</i> ... ..	48
Message from the National Assembly Re : Adoption of the North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975— <i>Read out</i> ...	48
The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975— <i>Adopted</i> ... ..	48
The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975— <i>Adopted</i> ...	51



## SENATE DEBATES

### SENATE OF PAKISTAN

Wednesday, April 2, 1975

The Senate of Pakistan met in the Senate Chamber, (State Bank Building), Islamabad, at ten of the clock in the morning, Mr. Chairman (Mr. Habibullah Khan) in the Chair.

(Recitation from the Holy Quran)

**Mr. Chairman :** Gentlemen, yesterday we wasted about 45 minutes. Today we wasted 30 minutes. My advice, personal request, my appeal seems to have fallen on deaf ears. I am very thankful to you who have come in time but for those who are absent and are not in a position to attend, I have pity and regret. Personally, I am ashamed to see that there are so many vacant seats. We have not been able to collect here 12 Members to complete the quorum. Really I am very very sorry. Well, I refrain from saying anything more. You understand what is in my mind, and those who are absent also understand. I refrain from saying anything more.

Now, we take up questions.

## STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

### PROCEDURE FOR SELECTION OF JOURNALISTS SENT ON TOUR ABROAD

65. **\*Mr. Zamarud Hussain** (Put by Mr. Ahmad Waheed Akhtar) : Will the Minister for Information and Broadcasting be pleased to state :

- (a) the procedure for selection of journalists who are sent on tour in foreign countries ;
- (b) whether Provincial representation in the selection of these journalists is kept in view ; and
- (c) the names of the journalists from Baluchistan sent out on these foreign tours during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74 ?



2. Mr. Iftikhar Yousaf  
Editor,  
"Nara-e-Haq",  
Quetta. Prime Minister's visit to China  
(May, 1974)
3. Mr. Fasih Iqbal,  
Editor,  
"Zamana",  
Quetta. Visit of journalists to Iran  
under RCD Exchange  
Programme, (June, 1974)

Mr. Sher Mohammad Khan : Mr. Chairman, Sir.

Mr. Chairman : Do you want to ask supplementary ?

Mr. Sher Mohammad Khan : Yes, Sir.

کیا وزیر صاحب ازراہ کرم بیان فرمائیں گے کہ مسٹر فصیح اقبال اور  
مسٹر افتخار یوسف کے پاس جرنلزم کی کوئی ڈگری بھی ہے یا نہیں، اگر نہیں تو  
ان کی تعلیمی قابلیت کیا ہے ؟

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I am grateful for the supplementary of the honourable Member. As a matter of fact, due care is taken to scrutinise and verify the qualifications of the journalists to be sent on a particular mission, particularly when they are abroad with the honourable Prime Minister, and I regret that at this stage, I am unable to give their qualifications although supplementary is relevant and I should have informed the House regarding their qualifications, and I promise that I will obtain the relevant material, and place it on the Table of the House as soon as possible.

Secondly, Sir, with your permission, I say that we are encouraging the provincial Governments to submit their recommendations, and so far we have received information from the NWFP Government and that was received in March, 1975 through an Express Telegram and, Sir, as far as the news media in Baluchistan is concerned, we have not got a wide field of selection. Because of limited number of the Papers, we have got to restrict ourselves but as yet I consider that the supplementary is relevant, and I regret and I will be giving the requisite reply very shortly.

Mr. Chairman : Mr. Minister, I remind you that we are dealing with a supplementary arising out of a question. There are only two courses open to you—either you have to reply the supplementary or you should ask for a notice, as you like. It is upto you. Either you reply, and if you are in a position to give a reply you should do it, but if you are not in a position to give the reply, then you should ask for a notice.

Mr. Tahir Mohammad Khan : Sir, a third course is also open to the Minister. He can promise that he will feed us with the information.

Mr. Chairman : I do not think there is any such thing in the rules. There is nothing in the rules. Either he has to answer or ask for notice,

[Mr. Chairman]

because he is piling promises over promises and we feel lost. How many promises has he made and how many of them will he be able to carry out? So, it will be perfectly within the rules if he just asks for notice.

**Malik Mohammad Akhtar :** I consider that the course suggested by the honourable Chairman is more precise and brief. Let there be notice.

**Mr. Chairman :** Why don't you throw the ball in his court?

**Malik Mohammad Akhtar :** I want notice.

**Mr. Chairman :** This is the simplest and the easiest course.

**Malik Mohammad Akhtar :** I want a notice.

جناب شیر محمد خان : سر ! کیا وزیر صاحب از راہ کرم بیان فرمائیں گے کہ کیا یہ درست ہے کہ فصیح اقبال اور افتخار یوسف کے علاوہ بلوچستانی میں ان سے زیادہ تجربہ کار زیادہ تعلیم یافتہ جرنلسٹ موجود ہیں تو ان کو نظر انداز کر کے ان دو صاحبان کو بار بار غیر ملکی دوروں پر کس بنیاد پر بھیجا جا رہا ہے ؟

جناب چیئرمین : دیکھئے آپ نے ایک چیز کو presume کر لیا ہے جس کا ہمارے پاس کوئی میٹیریل نہیں ہے اور آپ نے presume کر لیا ہے کہ ان سے اور بہت زیادہ قابل لوگ وہاں موجود ہیں اور ان کو نظر انداز کیا گیا ہے اور ان کو لیا گیا ہے ۔ اب ہمارے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ہے جس سے ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ زیادہ لائق ہیں ، زیادہ قابل ہیں یا وہ دوسرے ، جن کو چھوڑ دیا گیا ہے ۔ وہ زیادہ لائق اور قابل نہیں ۔

جناب طاہر محمد خان : نہیں سر ! presume نہیں ہو سکتا ہے ۔ جب بھی کوئی ممبر سوال پوچھتا ہے تو

basis of information is fed to him. Perhaps he may be knowing that there are more competent persons.

میں بلوچستان کا نمائندہ ہوں ۔ میں آپ کو ایک لمبی لسٹ دے سکتا ہوں ۔

جناب چیئرمین : آپ تو بلوچستان سے ہیں ۔

but unfortunately you are Deputy Chairman and not Minister.

اگر آپ منسٹر ہوتے تو پھر ٹھیک تھا ۔

جناب طاہر محمد خاں : نہیں سر ! میں ایک گزارش کرتا ہوں کہ ان کو علم ہوگا تو وہ اپنے علم کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں زیادہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ان کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ ان پڑھ ، جھلا کو لے جایا گیا ہے تو ؟

جناب چیئرمین : دیکھئے طاہر صاحب آپ نے کہا ہے کہ انہیں پتہ ہے۔ اگر ان کو پتہ ہے تو وہ انفارمیشن کیا پوچھتے ہیں ؟ اگر پتہ نہیں ہے تو ملک صاحب کو پتہ نہیں ہے اور ملک صاحب نے پہلے ہی کہا دیا ہے کہ میرے پاس ان لوگوں کی qualifications کی کوئی فہرست نہیں ہے کہ وہ کتنے کوالیفائڈ ہیں ، ان کی کتنی تعلیم ہے ، کیا تجربہ ہے ان کی بیک گراؤنڈ وغیرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مواد نہیں ہے اور میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ جب ان کے پاس مواد ہی نہیں ہے تو وہ مقابلہ کیسے کریں گے موازنہ کیسے ہو سکے گا وہ کیسے compare کریں گے کہ جو رہ گئے ہیں وہ زیادہ لائق اور زیادہ قابل ہیں یا وہ جو لٹے گئے ہیں وہ زیادہ مستحق تھے ؟ جب تک ان کے پاس ان کی experience, qualifications وغیرہ کے document نہ ہوں آپ کہتے ہیں کہ شیر محمد صاحب کو معلوم ہے لیکن وہ تو اطلاع ان کی چاہتے ہیں۔

جناب طاہر محمد خاں : اس question میں سے سپلیمنٹری arise ہو سکتا ہے کیونکہ یہ original question کا "e" part ہے۔

جناب چیئرمین : میں نے یہ تو نہیں کہا کہ arise نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ arise نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے جواب دیا ہے کہ مجھے ان کی qualifications کا علم نہیں ہے۔

جناب طاہر محمد خاں : اصولی طور پر منسٹر صاحب کو تیار ہو کر آنا چاہئے کیونکہ وہ سپلیمنٹری جو ممکن طور پر کسی question میں سے arise ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہو سکتی کہ ہم جو بھی سپلیمنٹری پوچھیں تو وہ کہہ دیں کہ fresh notice چاہئے ، fresh notice چاہئے اس سے بڑی تکلیف ہوگی۔ یا تو پھر سپلیمنٹری کا جو institution ہے اسے رول میں سے خارج کر دیا جائے تاکہ پھر ایک سوال اور ایک جواب ہو۔ باقی جو سپلیمنٹری پوچھیں ، ان کے لئے fresh notice دیں۔

جناب چیئرمین : اب ان کو کیا پتہ ہے کہ کیا سپلیمنٹری پوچھنا ہے ؟

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I regret I have been.....

جناب چیئرمین : ملک صاحب آپ ذرا تشریف رکھئے کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم سوال اٹھایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ منسٹر صاحب کو پتہ ہونا چاہئے کہ کیا سپلیمنٹری ہو سکتے ہیں۔ منسٹر صاحب کو آن سپلیمنٹری سوالات کا پتہ ضرور ہونا چاہئے جو جواب سے نکل سکتے ہیں۔ اب انہوں نے تاریخ بتا دی ہے کہ کون کون گئے ہیں اور کب گئے ہیں۔ اب وہ کیسے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان سے ان کی qualifications بھی پوچھی جا سکتی ہیں۔ اگر میں ان کی جگہ منسٹر ہوتا تو

I could not have presumed that these will be likely possible supplementaries.

اور یہ ہمیشہ منسٹر concerned کے اختیارات میں سے ہے کہ وہ کہے کہ

I want notice, or if he is in a position he can answer.

excuse me میں یہ نہیں کہتا کہ qualifications کے بارے میں یہ جو سپلیمنٹری ہے کہ یہ جو رہ گئے ہیں اور یہ جو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گئے ہیں، ان کو امید نہیں تھی کہ ان دونوں کی qualifications پوچھی جائیں گی کہ ان کی qualifications کیا ہیں؟ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔

جناب طاہر محمد خاں : کیونکہ اب آپ نے اپنی رائے دے دی ہے۔ اس لئے میں bow کرتا ہوں۔

جناب چیئرمین : میں نے آپ سے اختلاف تو نہیں کیا ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان کی qualifications پوچھی جائیں گی۔

**Mr. Tahir Mohammad Khan :** It is actually a sort of criticism of a certain authority and the question is that if a person is repeated time and again, what is the cause. The person who has asked this question must have done it on the basis of his own information. Therefore, this becomes a part of that question.

**Mr. Chairman :** Well, if you wish, I reluctantly agree to what you have said, but I do not feel inclined.

**Mr. Tahir Mohammad Khan :** But, Sir, I bow before your ruling.

جناب چیئرمین : جی شیر محمد صاحب آپ فرمائیے کیا اور سپلیمنٹری پوچھنا چاہتے ہیں؟

جناب شیر محمد خاں : نہیں سر ! اسی سپلیمنٹری کے متعلق عرض کر رہا تھا کہ وزیر صاحب کو پتہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس مواد موجود نہیں ہے۔ لیکن اتنا تو وزیر صاحب خود بھی بتا سکتے تھے کہ جو ان کے مقابلے میں بدرجہا بہتر زیادہ قابلیت کے، زیادہ تجربہ کار اور زیادہ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں تو ان کی حق تلفی کس بنیاد پر ہوئی ہے؟

جناب چیئرمین : آپ نے تو دو سوالوں کو اکٹھا کر دیا ہے نمبر ۱ کہ دوسرے جو رہ گئے ہیں وہ زیادہ قابل اور زیادہ لائق ہیں۔ یہ آپ نے presume کر لیا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں فروگذاشت کیا گیا ہے۔ ان کو کیوں نہیں لے جایا گیا۔ آپ نے یہ دو سوال پوچھے ہیں۔

جناب شیر محمد خاں : سر ! میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ لوگ - - -

جناب چیئرمین : دیکھئے آپ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جو رہ گئے ہیں، وہ زیادہ قابل، زیادہ لائق، زیادہ experienced اور زیادہ کوالیفائڈ ہیں۔ یہ تو آپ فرماتے ہیں۔ ملک صاحب کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جو رہ گئے ہیں وہ زیادہ مستحق تھے۔ ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہے تو وہ جواب دے دیں۔

جناب شیر محمد خاں : سر ! تو میں پھر سپلیمنٹری اس انداز سے پوچھ لیتا ہوں۔

جناب چیئرمین : دیکھئے میں آپ کو rules کی ایک بات بتائے دیتا ہوں۔ آپ ایک سپلیمنٹری میں دوسرا سپلیمنٹری چھپا کر شامل نہیں کر سکتے۔

جناب شیر محمد خاں : سر ! میں ایک سپلیمنٹری کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ مسٹر فصیح اقبال اور مسٹر افتخار یوسف کے علاوہ وہاں بلوچستان میں زیادہ علم والے، زیادہ قابلیت والے اور زیادہ تجربہ کار جرنلسٹ موجود ہیں تو ان کو کیوں نہیں بھیجا گیا؟

جناب چیئرمین : انہوں نے کب مانا ہے کہ وہاں زیادہ قابلیت والے جرنلسٹ موجود ہیں ؟ آپ نے پھر وہی سوال کیا ۔

(مداخلت)

جناب چیئرمین : شیر صاحب آپ نے دو سوال کئے ہیں آپ نے کہا کہ مسٹر فصیح اقبال اور مسٹر افتخار یوسف کے علاوہ جو رہ گئے ہیں وہ زیادہ مستحق اور زیادہ تجربہ کار ہیں پھر آپ نے ۔۔۔

جناب شیر محمد خاں : سر ! میں اس طرح پوچھ لیتا ہوں کیا ۔ فصیح اقبال اور افتخار یوسف کے علاوہ بلوچستان میں ان سے زیادہ تجربہ کار ، زیادہ تعلیم یافتہ اور زیادہ قابل جرنلسٹ موجود ہیں یا نہیں ہیں ؟

جناب چیئرمین : اب ٹھیک ہے ۔ اگر آپ یہ پہلے پوچھتے تو ہمارے دس منٹ save ہوتے ۔ یہ پوچھتے ہیں کہ افتخار یوسف اور مسٹر فصیح اقبال کے علاوہ باقی بھی کئی بلوچستان میں زیادہ تجربہ کار اور زیادہ قابل جرنلسٹ موجود ہیں ؟ پہلے آپ اس کا جواب دیں ۔

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I am not supposed to know. There is no list of journalists with me. I would like to request you to refer to part (c) of the question out of which this supplementary is arising : "The names of the journalists from Baluchistan sent out on these foreign tours during the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74" Now, the information which I have given, is complete. Complete information is there.

جناب چیئرمین : وہ تو آ گیا ہے ۔

He wants this information : Whether it is a fact that there are other journalists who are more experienced, more qualified and more deserving than these two persons, and they should have been included in the visits abroad.

Malik Mohammad Akhtar : Then, Sir, my answer is the same. I would be needing a fresh notice.

جناب چیئرمین : ٹھیک ہے ۔

جناب شیر محمد خاں : ایک سیپلیمنٹری ہیر ! کیا مسٹر صاحب میرے ساتھ اس بات پر اتفاق کریں گے کہ اگر کسی مستحق آدمی کو نظر انداز کر کے غیر مستحق کو بھیجا گیا ہے تو اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے ؟

**Mr. Chairman :** Let him reply.

**Malik Mohammad Akhtar :** This is a matter of opinion. Sir, we may be considering that it is a deserving case and the honourable Member may be considering that he deserves more. That is a matter of opinion.

**Mr. Chairman :** I thought you will ask him to clarify his supplementary question.

آپ نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ مسٹر فصیح اقبال اور مسٹر افتخار یوسف کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں ، پروینشل گورنمنٹ کے خلاف یا سنٹرل گورنمنٹ کے خلاف چاہتے ہیں کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ افتخار یوسف اور فصیح اقبال پرائم منسٹر کے ساتھ گئے تھے اور اکثر دفعہ آپ نے کہا کہ پروینشل گورنمنٹ سے صلاح مشورہ کیا جاتا ہے ۔ اب آپ ان کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں جو گئے ہیں یا پروینشل گورنمنٹ کے خلاف ؟

It is not clear.

**Malik Mohammad Akhtar :** Let him be clear in his question and then I will try to give an answer.

جناب شیر محمد خاں : سر ! جنہوں نے چنا ہے ، جنہوں نے بھیجا ہے ، جنہوں نے مستحق کو چھوڑا ہے اور نان مستحق کو بھیجا ہے ۔

**Mr. Chairman :** Now, do you understand ? He wants punitive action, punishment to be given to those persons who are responsible for their selection.

**Malik Mohammad Akhtar :** I deny the allegations according to the available record. I will qualify my statement. According to the available record they were the best persons who could be sent.

**Mr. Tahir Mohammad Khan :** No, Sir. I protest. They are not at all the best people in Baluchistan. I protest, and I can prove it, Sir. They are not the most qualified persons.

**Malik Mohammad Akhtar :** This is a matter of opinion. We may be wrong, that is a matter of opinion.

جناب چیئرمین : میں کیا کروں ؟ جواب دینا چاہئے منسٹر کو اور دیا گیا ہے جواب ڈپٹی چیئرمین کو ۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ذاتی علم ہے ۔

جناب طاہر محمد خاں : میں تو ان کے جواب کے خلاف protest کر رہا ہوں ۔ وہ کہتے ہیں کہ

[Mr. Tahir Mohammad Khan]

They are the only qualified persons. I say they are not the only qualified people.

میں تو ان کے جواب کے مقابلے میں protest کر رہا ہوں -

جناب چیئرمین : آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر منسٹر جواب دے تو کیا آپ اٹھ کر نہ صرف repudiate یا refute کر سکتے ہیں بلکہ protest بھی کر سکتے ہیں ؟

جناب طاہر محمد خاں : میرے پاس یہاں اور کرنے کو کام بھی کیا ہو سکتا ہے ؟

جناب چیئرمین : آپ کہتے ہیں ان سے زیادہ لائق ہیں - وہ نہیں مانتے تو پھر آپ privilege motion لائیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے - جب آپ میری طرح اس کرسی پر تشریف آور ہوں گے تو پھر تو آپ نے rules کو enforce کرنا ہے -

جناب طاہر محمد خاں : ایک ہے رائے کی بات اور دوسری انفارمیشن کی بات - میں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہاؤس کو غلط اطلاع دی ہے - یہ ان کی اپنی رائے ہے لیکن صائب رائے نہیں ہے -

جناب چیئرمین : پھر آپ protest کس کا کر سکتے ہیں ؟

جناب طاہر محمد خاں : وزیر صاحب کی رائے پر -

جناب چیئرمین : دیکھیں طاہر صاحب ! آپ کہتے ہیں یہ کمرہ بڑا خوبصورت ہے اور میں کہتا ہوں یہ کمرہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر کس بات پر protest کر سکتے ہیں ؟

جناب طاہر محمد خاں : جناب ! یہ qualifications کی بات ہے -

Mr. Chairman : There can be no question of protest on opinion. There can be a question of protest on fact.

Mr. Tahir Mohammad Khan : This is on the opinion, Sir.

جناب چیئرمین : میں عرض کرتا ہوں - آپ کو یہ چیز اچھی نظر آتی ہے مجھے اچھی نظر نہیں آتی -

This is a question of opinion. You have no right to protest against it but you have a right to protest against a fact.

اگر میں کہوں کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں تو

You can protest because it is a mathematical fact that  $2+2$  is equal to 4. You can protest.

آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کمزہ اچھا نظر آتا ہے میں کہتا ہوں اچھا نظر نہیں آتا۔

Well, we have different opinions. We are welcome to have our opinions. But there can be no question of protest. You cannot force him to change his opinion and replace yours.

آپ کی یہ رائے ہے، ان کی وہ رائے ہے۔ اب آپ کیسے اپنی رائے کو ان کی رائے پر inflict کر سکتے ہیں کہ آپ نے میری ہی رائے ماننی ہے؟

You can protest against facts because facts are facts and they are not liable to any difference of opinion. Now, this is a fact.

آپ پروٹسٹ کر سکتے ہیں اگر میں fact کو اس طرح سے بتاؤں۔

لیکن یہ ان کی رائے ہے کہ کون لائق ہے کون لائق نہیں ہے۔

This is a question of opinion.

اب کون کہے گا کہ حاجی نعمت اللہ صاحب زیادہ لائق ہیں یا میں زیادہ لائق ہوں۔

This is again a question of opinion.

بہتوں کو وہ لائق نظر آئیں یا شاید میں لائق نظر آؤں۔

So, this is a question of opinion. This is not a question of fact. Well, this is an academic discussion leading us nowhere. But, anyhow he wants a notice. Yes, Sher Mohammad Sahib ?

جناب شیر محمد خاں : جناب والا ! میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں رائے یا نہ رائے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔

جناب چیئرمین : آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ رائے یا نہ رائے کا سوال پیدا نہیں ہوتا؟

جناب شیر محمد خاں : وہ تو حقائق کی بنیاد پر ہے۔ اگر ایک آدمی جرنلسٹ ہے تو اس کے پاس جرنلزم کی ڈگری یا تجربہ یا جرنلزم کی کوئی تعلیم ہے۔

688

جناب چیئرمین : اب آپ لیکچر تو نہ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔

I want a notice.

آپ ان کو نوٹس دے دیں۔

جناب شیر محمد خاں : میں نوٹس دے دیتا ہوں۔

جناب چیئرمین : انہیں معلومات حاصل کرنے دیں پھر موازنہ کریں گے کہ کون زیادہ qualified ہے اور کون زیادہ لائق ہے جو کچھ ہے وہ merits پر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں

What is 'merits' ?

جناب احمد وحید اختر : سپلیمنٹری سر ! کیا وزیر موصوف جواب کے حصہ (بی) پر غور فرماتے ہوئے جہاں یہ دیا گیا ہے :

The final selection of journalists.

Mr. Chairman : Which part of answer ?

Mr. Ahmad Waheed Akhtar : Part (b) of the answer : "The Provincial Governments are also consulted through the Regional Offices of the Public Information Department. The final selection of journalists is made thereafter by this Division after consultation with the concerned agencies of the Federal Government according to the requirements of particular assignment and on consideration of promotion of the cause for which the visits are sponsored."

کیا وزیر صاحب یہ فرمائیں گے کہ ان صحافیوں نے اپنے ان دوروں کے بعد اپنے اخبارات میں یا ملک کے دیگر اخبارات میں کوئی reports چھاپی ہیں جن سے یہ پتہ چلے کہ ان دوروں کے مقاصد کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں ؟

Malik Mohammad Akhtar : It positively needs a fresh notice.

جناب طاہر محمد خاں : کیا وزیر محترم ارشاد فرمائیں گے کہ وہ کون سی ایڈیشنل کوالیفیکیشنز ہیں جن کی وجہ سے انہیں دو دو دفعہ بھیجا گیا ہے ؟

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I again repeat that I have not got the requisite information in respect of their qualifications but the selection was made through proper channel by the concerned Information Division with the consultation of the Provincial Government. If fresh notice is given, I will be happy to give them a comprehensive answer.

Mr. Chairman : Any other supplementary ?

راؤ عبدالستار : سپلیمنٹری جناب ! کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ ان دو اخباروں کی سرکولیشن کیا ہے ؟

Malik Mohammad Akhtar : If the honourable Leader of the House gives a fresh notice, I will certainly be happy to serve and give the requisite information.

Rao Abdus Sattar : Thank you.

جناب احمد وحید اختر : سپلیمنٹری سر ! کیا وزیر موصوف یہ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ روزنامہ ہے ، ہفت روزہ ہے ، سہ روزہ ہے ، یہ ہے کیا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا ؟

Mr. Chairman : This is a relevant supplementary.

Malik Mohammad Akhtar : Sir, I can consider when the other questions come I will give the information to my honourable colleagues the next item.

Mr. Chairman : This must be in your notice.

Malik Mohammad Akhtar : It is not, Sir. I regret, Sir. This is what I have pointed out that my information is incomplete.

Mr. Chairman : Any other supplementary ? Mr. Piracha, do you also want to comment ? All right. Then, we move on to the next item.

## LEAVE OF ABSENCE

Mr. Chairman : Now, there is a leave application by Senator

Qamaruz Zaman. He has sent a telegram from Hyderabad. It reads :  
"I am unable to attend the Senate due to sudden illness of my mother. Kindly grant leave upto 7th April."

Has he leave of the House ?

(Leave was granted)

Mr. Chairman : The leave is granted.

691

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY  
RE : ADOPTION OF THE NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE  
URBAN PLANNING BILL, 1975

**Mr. Chairman :** There is a message from the Secretary, National Assembly, to Secretary, Senate Secretariat.

“In pursuance of rule 109 of the rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly has passed the North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975, on the 1st April 1975. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

MESSAGE FROM THE NATIONAL ASSEMBLY SECRETARIAT  
RE : ADOPTION OF THE NORTH-WEST FRONTIER  
PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION  
(AMENDMENT) BILL, 1975

**Mr. Chairman :** There is also another message from the same Secretariat.

“In pursuance of rule 109 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly, I have the honour to inform the Senate Secretariat that the National Assembly has passed the North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975, on the 1st April 1975. A copy of the Bill is transmitted herewith.”

Now, we move on to the Legislative Business.  
Yes, Malik Akhtar.

THE NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE URBAN PLANNING  
BILL, 1975

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I beg to move :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with the economic and social planning at all Governmental levels, and to create suitable institutional framework to effectuate such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with the economic and social planning at all Governmental levels, and to create suitable institutional framework to effectuate

such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I would like to make a very brief statement. I need not repeat that the President has been pleased to direct the Governor NWFP to assume powers, all the executive powers. Sir, on 16 February, 1975, a Notification was issued and besides the Governor assuming the powers, the Parliament of Pakistan has assumed the functions of the Provincial Assembly of NWFP and as such, Sir, the present Ordinance was originally issued on, probably, 2nd January, 1975, and it is to be ratified within three months under Article 128, clause (2) of the Constitution. Now, Sir, briefly speaking in the present Bill which is going to ratify the Ordinance, it has become incumbent upon the province of NWFP to establish a system of Urban Planning, Development to provide for the integration of physical planning with economic and social planning at provincial, regional and local levels. Sir, in the Board, we have tried to provide a structure to process the scheme of the rural development in accordance with the policies of the Provincial Government. Sir, under this Bill, this is the object of the legislation and object of the Board and under this Bill a Board is to be constituted which will be called ‘Provincial Urban Development Board’. This Board shall consist of members not exceeding nine. One of the members would be its Chairman. Sir, the function of the Board would be, as I have already stated, to formulate and amend long-term, medium-term and short-term Development policies of the Government. Sir, the Board has been empowered to review the developmental activities and it is also empowered to render technical guidance to the Municipal Committees and other local Government bodies which are functioning there. Then, under the Bill it is also provided to coordinate the developmental activities and I would say that this is a revolutionary measure, although, I would say that of NWFP, it be said that the developmental activities are lacking in the province, but in order to sponsor and promote the present developmental activities, this measure has been brought to speed up the developmental activities.

**Mr. Chairman :** Thank you. Anybody wants to speak? I think none. So, I put the question to the House.

The question before the House is :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with the economic and social planning at all Governmental levels and to create suitable institutional framework to effectuate such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Now, we take up clause by clause reading of the Bill.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, the clauses may be taken together because there is no amendment.

**Mr. Chairman :** This is exactly what I am doing.

I propose to put all the clauses except Clause No. 1. so I will put from Clause No. 2 to 53.

The question before the House is :

“That Clauses 2 to 53, both inclusive, form part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 2 to 53 stand part of the Bill. Now, the last question.

The question before the House is :

“That Clause 1, Short Title and Preamble from part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 1, Short Title and Preamble stand part of the Bill. Yes, you move the next item.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I beg to move :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with the economic and social planning at all Governmental levels, and to create suitable institutional frame-work to effectuate such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], be passed.”

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with the economic and social planning at all Governmental levels, and to create suitable institutional framework to effectuate such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], be passed.”

**Malik Mohammad Akhtar :** Not opposed.

**Mr. Chairman :** Would you like to speak ?

**Malik Mohammad Akhtar :** No, Sir, I have already made a short statement.

**Mr. Chairman :** So, I put the question before the House.

The question before the House is :

“That the Bill to establish a system of urban planning for the North-West Frontier Province to provide for effective vertical and horizontal integration of physical planning with

the economic and social planning at all Governmental levels, and to create suitable institutional framework to effectuate such objectives [The North-West Frontier Province Urban Planning Bill, 1975], be passed."

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** The Bill stands unanimously adopted.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, before I move the next item, I would like to enquire from the Leader of the House and the other honourable Members that if they desire item No. 5 and 6 can be deferred till tomorrow because, I think, there were some consultations to be held, and if they wish to take it up now, I can move it.

**Mr. Ihsanul Haq :** Sir, because there is no controversy in this Bill, we should take it up now.

### THE NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE PUBLIC SERVICE COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 1975

**Malik Mohammad Akhtar :** All right, Sir. I beg to move, Sir :

"That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration."

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

"That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration."

**Malik Mohammad Akhtar :** It is not opposed, Sir.

I would like to make a very brief statement. Under sub-section (2) of section 3 of the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 (N. W. F. P. Act No. XIX of 1973), it is provided that there shall be three members of the North-West Frontier Public Service Commission including its Chairman. Sir, it is considered that the provision not only makes it obligatory on the Governor to appoint three members but also prevents him from appointing more members. In order to remove this restriction and obligation, it is necessary to amend the Act. Under the present Bill we may increase the number of Members. The number may be as determined by the Governor. Therefore, this small amendment is there.

**Mr. Chairman :** So, I put the question. Any gentleman who wants to speak ?

**Mr. Ihsanul Haq :** No, Sir. After Malik Akhtar's speech, there is no need to speak.

**Mr. Chairman :** The question before the House is :

“That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], as passed by the National Assembly, be taken into consideration.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Now, we take up clause by clause reading of the Bill. This is a small Bill of only three clauses. Clause 2 is under consideration.

The question before the House is :

“That Clause 2 forms part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 2 stands part of the Bill. Now Clause 3 is under consideration.

The question before the House is :

“That Clause 3 forms part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 3 stands part of the Bill. Now, the last question.

The question before the House is :

“That Clause 1, Short Title and Preamble form part of the Bill.”

*(The motion was adopted)*

**Mr. Chairman :** Clause 1, Short Title and Preamble stand part of the Bill. Yes, Malik Akhtar, you please move item No. 6.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, I beg to move :

“That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], be passed.”

**Mr. Chairman :** The motion moved is :

“That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], be passed.”

**Malik Mohammad Akhtar :** Not opposed, Sir.

**Mr. Chairman :** Would you like to speak ?

**Malik Mohammad Akhtar :** No, Sir, I have already given my explanation.

**Mr. Chairman :** So, I put the question.

The question before the House is :

“That the Bill to amend the North-West Frontier Province Public Service Commission Act, 1973 [The North-West Frontier Province Public Service Commission (Amendment) Bill, 1975], be passed.”

*(The motion is adopted)*

**Mr. Chairman :** The Bill stands unanimously adopted. There is no business. How do you feel ? Have we to meet tomorrow ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Yes, Sir.

**Mr. Chairman :** What time ?

**Malik Mohammad Akhtar :** Same time, Sir.

**Mr. Chairman :** Same time with the same number? May I repeat my request. I need not repeat what I said yesterday. But I simply request that for God's sake you be punctual, so that we can take up our proceedings according to schedule. This is my personal request. Mr. Ihsanul Haq, do you want to say something ?

**Mr. Ihsanul Haq :** No, Sir.

**Mr. Chairman :** I think so because you were shaking your head.

**Mr. Ihsanul Haq :** However, Sir, if we meet at 11.00 a. m. we can finish our agenda of the day at 11.30 a. m.

**Mr. Chairman :** And why not meet at 8.00 a. m. and finish up by 8.30 a. m., and the whole day is at your disposal.

**Mr. Ihsanul Haq :** Day is not good but evening is important.

**Mr. Chairman :** For some the evening is good and for some the day is good. Some enjoy day and some enjoy evening.

**Malik Mohammad Akhtar :** Sir, we don't interrupt his evenings.

**Mr. Chairman :** So, the House stands adjourned to meet tomorrow at 10.00 a. m.

---

(The House then adjourned to meet at ten of the clock in the morning on Thursday, April 4, 1975)

---